


هُدًى بَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هَادِيَةً إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

إِنَّا لَنَقْرَأُكُمْ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ



لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

كُلٌّ فِيهِ آيَاتٌ مُبِينَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

مَنْ مِّثْلِهِ سِوَا دَعَا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تم بھی بنا لاؤ اور اگر تم سچے ہو تو خدا کے سوا اور اپنے

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَاَنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

سب گواہوں کو گھملا لو پھر اگر تم ایسا نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝

تو اس آگ سے (بھی) ڈرتے رہو جسکا ایندھن آدمی ہیں اور پتھر (جو)

اُجِدْتُمْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَيَكْثُرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

عاصیوں کیلئے تیار کی گئی ہے اور اسے رسول (ایماندار اور نیکو کار آدمیوں کو بشارت دو

الصَّالِحِينَ اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

کرائے گئے باغ ہیں جگے نیچے ندیاں بہتی (پہرتی) ہیں

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي

جب کبھی انکو کھانے کے لئے انہیں سے کوئی پھل ملے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسا ہی تو ہم کو

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ بِمُتَشَابِهَاتٍ وَلَهُمْ فِيهَا

پہلے بھی پھل چکے ہیں حالانکہ وہ رنگت ہی میں ویسا ہو گا نہ کہ ذائقہ میں) اور انکے لئے ان باغوں

اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

میں پاکیزہ بیجاں بھی جوئی اور انہیں وہ ہمیشہ رہیں گے بیشک اللہ کو حقیر تک کی

اِنَّ يَضْرِبَ مَثَلًا لِمَا بَعُوضَةٌ فَاَوْفَوْقَهَا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

مَثَل بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے نہ اس سے کسی بڑے جانور کی

اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ

ایمان لایا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں کہ خدا کی طرف سے حق ہے رہے کفار وہ یہ

كُفْرًا وَيَقُولُوْنَ مَاذَا ارَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۝ يُضِلُّ

کفر ہے کہ اس مَثَل سے خائن مقصد ہی کیا یا (مگر خدا کے قائل)

بے شمار کلمات اور حواشی کے ساتھ، جو اس صفحے کے بائیں جانب لکھے گئے ہیں۔

وَقَالُوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بے شمار کلمات اور حواشی کے ساتھ، جو اس صفحے کے نیچے لکھے گئے ہیں۔

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) and the number '۱۲' (12).

البقرة ۱۲

عَظِيمٌ ۝ وَاذْ قُرْنَا لَكُمْ الْحَمْرَ فَانجَيْنَاكُمْ وَاعْرِضْكَ آلًا

اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم نے سمندر میں تمہارے لئے راستہ پیدا کر دیا تھا اور ہمیں نجات ملی

فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَاذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ

دی تھی اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا تھا اور (اسے بھی یاد کرو) جب کہ ہم نے موسیٰ سے چالیس

لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

شبوں کا وعدہ کیا تھا پھر تم نے یہ ظلم کیا کہ اگلی غیبت میں بھڑا بوجھنے لگے

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اس پر بھی ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو

وَاذَاتَيْنَا مُوسَىٰ لِكِتَابِ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (حق و باطل کی) اجاں غایت کی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ

وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

اور جب تم نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم تم نے بھڑا بوجھ کر خود اپنے اوپر ظلم توڑا ہے اب

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝

اپنے پیدا کر نیوالے کے حضور میں توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ

یہ تمہارے پیدا کر نیوالے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے پھر تمہاری توبہ قبول کی جبکہ وہ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَاذْ قَلَّمْتُمْ نَجْمَهُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ

بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم ظاہر و باطن میں

نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

خدا کو نہ دیکھیں ہم تو تمہاری باتوں پر ایمان نہ لائیں گے تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تیر بجلی گری تھی

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَمْنَا

پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمکو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تم پر

Vertical handwritten notes on the right side of the page, including the word 'سبحان' (Subhan) and other religious text.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'سبحان' (Subhan) and other religious text.

Handwritten notes at the very bottom of the page, including the word 'سبحان' (Subhan) and other religious text.

عَلَيْكُمْ الْعَمَلُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَ وَكُلُوا

بادلوں کا سایہ کیا۔ اور تم پر بھی رسولی نازل کیا۔ (اور ہم نے حکم دیا کہ)

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا نَفْسًا لَنْ كَانُوا أَنْفُسِهِمْ

پاک اور بے رزق کا شوق نہ کیا۔ اور جو آپ پر بھی نازل ہوا تو انہوں نے ہرگز اس کا بدلہ نہیں دیا۔

يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا

ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تمہارا حق ہے

حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا أَوْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا

جہاں چاہو (جو) اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور لفظ حکم

بِحَسْبِ الْهَيْبَةِ لَكُمْ تُخَلِّفُونَ الْأَرْضَ وَعِلْمُ الْغُيُوبِ ۝ قَاتِلُوا

بھی اپنی زبان پر جاری کرو تو ہم تمہاری خطا میں بخشدگاری اور ہم ہر گز لوگوں کو جلد ترقی دینگے۔ پھر ظالموں نے

الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى

جو کچھ انہوں نے کہا گیا تھا اسے بدل کر اس کی جگہ دوسری بات لکھ دی پس یہی نافرمانی کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہم نے

الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔

وَإِذْ اسْتَسْقَمَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

اور (تو اس وقت یاد رکھو) جبکہ سڑنے لگے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ اس چمچ پر

الْحَكْمَ فَمَا لَهُمْ حَمِيحُونَ ۝ وَإِذْ مَسَّ الْفِئْتَانِ مِنْ سُلَيْمَانَ

اپنا عملی چمچ اس سے باز رہے ماری ہو گئے تھے (اور) ہر گز گروہ نے اپنے اپنے

كُلِّ الْأَرْضِ مُشْتَرِكِينَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

کچھ کو بھانا لیا تھا (پھر ہم نے یہ حکم دیا) خورنے اور پینے کے لئے کھاؤ اور پو

وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ ۝ وَإِذْ قُلْتُمْ

لوگوں کو نہ مارو۔ ہر زمین پر یہ مسلط ہوتے۔ اور جبوقت ہم نے یہ کہا تھا

بہت سے تفسیریں اور حواشی ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ کیا" اور "ظلم کرتے تھے" اور "جہاں چاہو" اور "اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے" اور "بھی اپنی زبان پر جاری کرو" اور "پھر ظالموں نے" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اور (تو اس وقت یاد رکھو)" اور "اپنا عملی چمچ اس سے باز رہے" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

بہت سے تفسیریں اور حواشی ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ کیا" اور "ظلم کرتے تھے" اور "جہاں چاہو" اور "اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے" اور "بھی اپنی زبان پر جاری کرو" اور "پھر ظالموں نے" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اور (تو اس وقت یاد رکھو)" اور "اپنا عملی چمچ اس سے باز رہے" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

بہت سے تفسیریں اور حواشی ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ کیا" اور "ظلم کرتے تھے" اور "جہاں چاہو" اور "اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے" اور "بھی اپنی زبان پر جاری کرو" اور "پھر ظالموں نے" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اور (تو اس وقت یاد رکھو)" اور "اپنا عملی چمچ اس سے باز رہے" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

يَوْمَ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ

کہ اے ہونے ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے اسلئے اپنے خدا سے چارے لئے

يَجْرِكُنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَابِهَا

یہ دعا کرو کہ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں تاک بات کھیرا گڑھی گیون

وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اسْتَيْدِلُون

سور پیاز وہ ہارے لئے بھی پیدا کر دے (ہونے طیبہ السلام) فہا ہاتھا کر کیا تم کھینا

الَّذِي هُوَ اَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَلْهَيْطُ وَا

چیزوں کو اس سے بدلتا جا چتے ہو جو عمدہ ہے ایسا ہی ہے تو کسی شہر

مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَخَضِرَتْ عَلَيْهِم

میں بچے جاؤ کہ جو کچھ مانگتے ہو ٹکودہاں لجاے گا اور ایسی باتیں بناو لوں کہ

الذَّلَّةُ وَالْمَسْكِنَةُ وَبَاءٌ وَبَغْضٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِك

ذلت اور افلاس کی باری کئی تھی اور غضب خدا میں آئے تھے یہ نیچہ آسکا

يَا نَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ التَّائِبِينَ

تھا کہ خدا کی نشانوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انہما کو ناحق قتل کیا

بَعْدَ الْحَقِّ ذَلِكُمْ مِمَّا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

کرتے تھے (اور) یہ آسکا نیچہ تھا کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کیا کرتے تھے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

بیک جو لوگ ایمان لائے (مسلمان) اور جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ

وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

اور ستارہ پرست (انہیں سے) جو بھی خدا اور روز قیامت پر ایمان لائیں اور نیک

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عمل کریں گے پس انکا اجر انکے خدا کے پاس ہے اور آگوں کوئی خوف ہوگا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including commentary and additional text, written in various directions around the main text.

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُجْزَوْنَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

اور نہ وہ عقیبن ہوتے اور اسوقت کو یاد کرو جب تم سے مجھے عہد لیا تھا

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ

اور کوہ طور تمہارے سر سے اٹھایا کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے ہاتھ سے تم کو دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَاةَ الْمُشْرِكِينَ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ

تو تم جو جاؤ اور اُس کے مطالب بیان کرتے رہو تاکہ تم شقی ہو جاؤ اُس کے بعد تم پھر روگردان

بَعْدَ ذَلِكَ ۝ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

ہوے پس اگر اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت تمہارے شامل حال

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الذِّبْنَ

نہونی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم میں سے جنہوں نے نہت کباب میں زیادتی کی

اعْتَدُوا مِثْقَالَ حَبِّ خُمْرٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ

تم اُن کو خوب جانتے ہو پس مجھے اُن نے کہا کہ

قِرَادَةَ خَاسِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَيْنِ يَدَيْهَا

ذیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُن کے ہم عصرون

وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذْ قَالَ

اور بعد میں آنیوالوں کے لئے عقوبت قرار دیا اور پھر ہر گارو کے لئے نصیحت اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجَبُوا

موسے نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو گامے ذبح کرنے کا حکم

بِقُرْبَانٍ قَالُوا لَنُتِّخِذَنَّهَا حُرُومًا قَالُوا عَوِذُ بِاللَّهِ

دیتا ہے اُنہوں نے کہا کیا آپ ہم سے بظنا کرتے ہیں (موسے نے) فرمایا پناہ بجزا

إِنْ أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

کہ میں جاہل ہوں سے ہو جاؤ اُنہوں نے کہا کہ اپنے خدائے دہلیجے کو

بہت سے لوگوں نے اس آیت کو غلط سمجھا ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک نکتہ ہے کہ جب تم کو کچھ دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے لے لو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سے مجھے عہد لیا تھا اور کوہ طور تمہارے سر سے اٹھایا کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے ہاتھ سے تم کو دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ تو تم جو جاؤ اور اُس کے مطالب بیان کرتے رہو تاکہ تم شقی ہو جاؤ اُس کے بعد تم پھر روگردان ہوے پس اگر اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم میں سے جنہوں نے نہت کباب میں زیادتی کی اعتدوا مِثْقَالَ حَبِّ خُمْرٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ تم اُن کو خوب جانتے ہو پس مجھے اُن نے کہا کہ قِرَادَةَ خَاسِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَيْنِ يَدَيْهَا ذیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُن کے ہم عصرون وَا مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجَبُوا بِقُرْبَانٍ قَالُوا لَنُتِّخِذَنَّهَا حُرُومًا قَالُوا عَوِذُ بِاللَّهِ إِنْ أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ کہ میں جاہل ہوں سے ہو جاؤ اُنہوں نے کہا کہ اپنے خدائے دہلیجے کو

اس آیت میں کوئی حرام چیز نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک نکتہ ہے کہ جب تم کو کچھ دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے لے لو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سے مجھے عہد لیا تھا اور کوہ طور تمہارے سر سے اٹھایا کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے ہاتھ سے تم کو دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ تو تم جو جاؤ اور اُس کے مطالب بیان کرتے رہو تاکہ تم شقی ہو جاؤ اُس کے بعد تم پھر روگردان ہوے پس اگر اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم میں سے جنہوں نے نہت کباب میں زیادتی کی اعتدوا مِثْقَالَ حَبِّ خُمْرٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ تم اُن کو خوب جانتے ہو پس مجھے اُن نے کہا کہ قِرَادَةَ خَاسِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَيْنِ يَدَيْهَا ذیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُن کے ہم عصرون وَا مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجَبُوا بِقُرْبَانٍ قَالُوا لَنُتِّخِذَنَّهَا حُرُومًا قَالُوا عَوِذُ بِاللَّهِ إِنْ أَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ کہ میں جاہل ہوں سے ہو جاؤ اُنہوں نے کہا کہ اپنے خدائے دہلیجے کو

Handwritten marginal notes in Urdu at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) on the left and '۱۸' in a circle in the center.

اٰخِذْ تُوٰهْمَ بِمَا فَخَّرَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِكُمْ بِهِ عِنْدَ

كِيَاتَمِ اُنْهِي عَمَلِيْنَ بِيَانِ كَرِيْمِيْ يُوْجُوْا مَعْتَدِيْ تَهْرَظَا هِرَ كِيْ هِيْنَ تَاكِرُوْهُ تَمَارِيْ رِبِّ كِيْ حَضُوْرِيْنَ اَمِيْنِيْنَ

رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنْتَ اللّٰهُ

بَاوُوْنِ سِيْ تَهْرَجْتِ قَا تَمِ كَرِيْمِيْ كِيَا تَمُوْرَا تَمِيْ جَمِيْلِيْنَ نَبِيْنِيْ كِيَا وَهُ نَبِيْنِيْ جَا تَمِيْ كَرَامَتِيْ وَهُ نَبِيْنِيْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝ وَهُمْ اٰمِنُوْنَ

جَا تَا تَمُوْرُوْ جُوْ كَرِيْمِيْ جَا تَمِيْ هِيْنَ لَدُوْرُوْ هِيْ جَسَاوَهُ اَمَلَانِ كَرِيْمِيْ هِيْنَ لُوْرَا تَمِيْنِيْ جَمِيْلِيْنَ اِيْسِيْ اُنْ هِيْ هِيْنَ كَرِيْمِيْ

لَا يَعْلَمُوْنَ الْكُتٰبَ اِلَّا اٰمٰنِيْ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُوْنَ ۝

تَمَابِ كُوْرَا تَمَا هِيْ جَا تَمِيْ هِيْنَ كَرَا سَكِيْ تَقْطُوْنِ كُوْرُوْجِيْ كِيْمِيْ اُوْرُوْ طَلَبِ كِيْمِيْ سِيْ كَمَانِيْ كَمَانِيْ كَرِيْمِيْ هِيْنَ

قُوِيْلَ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكُتٰبَ يَا اَيُّهَا رَبِّهِمْ اَنْ يُسَمِّرُوْا

بِسُوْرِيْ اُوْرُوْ اُنْ لُوْ كُوْرُوْ كِيْ لُوْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ

يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْرُوْا بِهِ ثَمَنًا

يَكْتُمِيْ هِيْنَ كَرِيْمِيْ اَتَمَكِيْ اُسِيْ سِيْ اَتِيْ هِيْ تَاكِرُوْهُ تَمَارِيْ رِبِّ سِيْ قِيْمَتِيْ

قَلِيْلًا ۝ قُوِيْلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ اَيْدِيَهُمْ وَوِيْلَ لَهُمْ

هِيْجِيْ هِيْنَ هِيْجِيْ هِيْنَ اَتَمَكِيْ لُوْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ

مِمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لَنْ نَمْسُرَ النَّارَ اِلَّا اَيَّامًا

هِيْجِيْ هِيْنَ كَرِيْمِيْ اَتَمَكِيْ هِيْنَ اُوْرُوْ اَمُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ

مَعْدُوْدَةً ۝ قُلْ اَخِذْ تَمَّ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ

جَمُوْرُوْ كِيْ جَمِيْلِيْنَ هِيْنَ تَمِ اُنْهِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ كُوْرُوْ كِيْ

يُخَلِّفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

خُدَا اِيْنِيْ جَمُوْرُوْ كِيْ هِرَ كُوْرُوْ طَا فِ تَمَكِيْ سِيْ كَرِيْمِيْ كَرِيْمِيْ اَسَكِيْ كَرِيْمِيْ كَرِيْمِيْ هِرَ كُوْرُوْ طَا فِ تَمَكِيْ سِيْ كَرِيْمِيْ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سِنِيَةً وَاَخَاطَطَ بِهَا خَطِيْبَةً فَاُولٰٓئِكَ

هِيْنَ جَمُوْرُوْ كِيْ هِيْجِيْ كَرِيْمِيْ كَرِيْمِيْ اُوْرُوْ اَسَا كَرِيْمِيْ اَسَا كَرِيْمِيْ لِيْ كَرِيْمِيْ

نصو

Handwritten marginal notes on the right side of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) and '۱۸' in a circle.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) and '۱۸' in a circle.

أَصْحَابُ الْفِئَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے

وَعَلَى الصَّلَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

اور انہوں نے ایک کام ہے جن وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ (رہیں)

خَالِدُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

انہوں کے (اور اس وقت کو یاد کرو) جب کہ ہم نے اولاد اسرائیل سے عہد لیا تھا

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأُوذِيَ

کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے (مخصوصاً) اور

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

کے والدین اور یتیموں اور مسکینوں سے (عظماً) اچھی کرتے رہنا اور لوگوں سے بھلائی بات کرنا

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لَأَقْبِلَ اللَّهُ

اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوہ دیتے رہنا پھر تم اس طرف سے روگردان

مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

ہو کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ

اپنے میں خونریزی نہ کرنا اور نہ اپنی جانوں کو اپنے ملک سے

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ

جگہ پر لے آئے اور تم اس کے گواہ ہو پھر وہی تم ہو کہ

هَوَّلًا قَتَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ مِنْكُمْ

اب اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنے ملک سے

مِنْ دِيَارِهِمْ تَطَهَّرُوا لِيَلْجَأُوا بَالَاءَ الْعَادُونَ

جانتے ہو اور ان کے بڑے بڑے گناہوں اور زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کی پشت پناہی لیتے ہو

بہت سی حواشی اور تفسیریں اس صفحہ پر لکھی گئی ہیں، جن میں قرآنی الفاظ کی معنی، تاریخی حقائق اور فقہی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

Handwritten marginal notes in Arabic script at the top of the page.

وَأَن يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُوَ حَرَمٌ

اور جب وہ تمہارے پاس قید کر کے لائے جائیں تو انہیں قید میں لیتے ہو حالانکہ ان کا حال دنیا ہی

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْا مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ

تہم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ

اور بعض کے منکر ہو اور جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ لاسو اسے اس کے نہیں ہو

الْآخِرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

کہ زندگی دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت

إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

مذاب میں دالے جائیں ہر حال جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے غور نہیں ہے

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض زندگی دنیا (جو غیبی)

فَلَا يَخْفَى عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ

پس ان کے مذاب میں کوئی تخفیف کیجائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد دیجائے گی

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے بعد اور رسول (کیے بعد دیگرے) بھیجے

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کئی کئی نشانیاں وحی فرمائیں اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی

أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِمَّا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ أَتَكْفُرُونَ

کیا (ایسا نہیں ہو اگر) جو وقت بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہارے نفوس کی خواہش کے خلاف حکم لیکر آیا

فَفَرِّقَا كَذِبُكُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ۚ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

تم برابر کرتے رہے پھر کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے دل

Handwritten marginal notes in Arabic script at the bottom of the page.

غُلْفٌ دَبِيلٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

علوم کے کتھے ہیں (ایمانیہین) بلکہ اللہ نے ان کے کفر سے سب سے زبردست کی اور وہ بہت ہی کم ایمان لائینگے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا

اور جو حق امتی کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو خود انکی کتابوں کی تصدیق

مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

کرنے والی تھی حالانکہ پہلے سے وہ خود کافروں کے برعکس تھے حاصل کرنا چاہتے

كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ

بھی تھی مگر جب وہ آیا جسکو وہ پہچانتے تھے تو اسکا انکار کر گئے پس ان انکار کرنے والوں

اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ بِسْمِ اللَّهِ تَرَوَاهُ أَنْفُسُهُمْ

پر خدا کی لعنت ہو کیا بڑی چیز ہے وہ جسکے بدلے انھوں نے اپنی جانوں کو

أَنْ يَكْفُرُوا ۗ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ

بیخ ڈالا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے انکار کر دین یہ بغاوت اسلئے کی کہ اللہ اپنے

فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءٌ وَيُغْضِبُ عَلَى

بندوں میں سے جسپر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے پس وہ غضب بالائے غضب کے

غَضِبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۗ وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ

سحق ہوئے اور سزوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب مقرر کیا گیا اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے

أَمِنُوا ۗ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلًا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا

کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائینگے اور

يَكْفُرُونَ ۗ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

جو اسکے علاوہ ہے اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ حق ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسکی بھی تصدیق کرنے والی

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ

پس تم یہ کہو کہ اگر تم مومن ہوتے تو اس سے پہلے انبیائے خدا کو قتل کیوں کرتے

کلمہ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional verses.

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہر مسلمان کے دل میں گونجن اور اس کی زندگی میں عمل کی جائیں۔ آمین

مُؤْمِنِينَ ۝ وَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ

اور بیشک موسیٰ تمہارے پاس کئی نشانیاں لیکر آئے تھے پھر

اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَإِذْ

ان کی غیبت میں تھے پھر ابرو ج لیا اور اس میں تم ہی ظالم تھے اور (اس وقت کو

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قُوتُكُمُ الطُّورَ خُذُوا

یاد کرو) جبکہ تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کوہ طور تمہارے سر پر لٹکایا گیا تھا (اور حکم دیا تھا کہ) جو کچھ

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا اسْمِعْنَا وَعَصِينَا

ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوط ہو کر لو اور سنو تمہارے بزرگوں (اس وقت یہ کہا تھا کہ تم میں لیا کرتے نہیں

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمِ

اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں عجل کی جگت بیٹھ گئی تھی (اسے رسول) تم یہ کہو کہ اگر تم

يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ

مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت ہی برا حکم دیتا ہے یہ بجا کہہ دو کہ

إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً

اگر آخرت کا گھر خدا کے نزدیک خالص تمہارے ہی لئے ہے اور

مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

اُدو لوگوں کے لئے نہیں ہے پس اگر تم سچے ہو تو مرنے کی آرزو

صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ

کرد اور جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کھچے ہیں ان کے سبب

أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَلَيَحْذَرُنَّهُمْ

وہ ایسی تباہی گزرتی ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور تم ان کو

أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۝

زندگی کا سب سے زیادہ شیفہ پاؤ گے یہاں تک کہ مشرکین سے بھی

۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہر مسلمان کے دل میں گونجن اور اس کی زندگی میں عمل کی جائیں۔ آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہر مسلمان کے دل میں گونجن اور اس کی زندگی میں عمل کی جائیں۔ آمین

لہذا عدو الجبریل تفسیرنا حسن مسکری علیہ السلام میں مروی ہے کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کی مذمت اس وجہ سے کی کہ

البقرة

۲۳

الآية

يُودُ أَحَدَهُمْ لَوْ يَعْتَمِرُ الْفَسَنَةَ وَمَا هُوَ بِمَرْحُومٍ

ایک ایک کا انہیں سے یہی چاہتا ہے کہ کاش ہزار برس تو بچے مگر کسی کا سوا ہونا اسکو

مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

عذاب سے نہیں بچا سکتا اور جو عمل وہ کرتے ہیں خدا انکا دیکھنے والا ہے

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيِّ فَإِنَّ تَرْكَهُ عَلَى قَلْبِكَ

(اے رسول) کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا (جبریل) وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے

يَأْذِنُ اللَّهُ مَصَدِّقًا لِبَيْنِ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبَشْرًا

تھارے دل پر وہ (قرآن) نازل کیا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنا والا ہے اور پرمونکے لئے

لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

ہدایت اور خوشخبری جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں

وَجِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا پس اللہ (بھی) ضرور کافروں کا دشمن ہے

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

اور (اے رسول) تجھے تھارے پاس کھلی نشانیاں بھیجی ہیں اور سو نا فرمان لوگوں کے

إِلَّا الْفٰسِقُونَ ۝ أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا أَنْبَدًا

انکا کوئی انکار نہ کرے گا کیا جب بھی وہ کوئی عہد کرے بیٹے تو انہیں سے ایک فریق

فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَّ الْكُفْرَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَسَّاجِدًا لَهُمْ

اسکو توڑ دیا بلکہ انہیں زیادہ ایسے ہونگے جو ایمان نہ لائیں اور جب اللہ کی طرف سے

رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبِّدْ فَرِيقًا

انکے پاس ایسا رسول آیا جو انکے پاس الی چیزوں کی تصدیق بھی کرنا والا تھا تو جن کو کتاب دی گئی

مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَهُمْ

تھی ان میں سے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اس طرح پس پشت پھینکا

ان کو جبریل ان سے بعض نفاک جو جبریل انکو جبری معلوم ہوتے تھیں جبریل ان میں اس میں تفصیلاً فرما جا رہی کہ جیسے کہ انکا بیان علیہ السلام کہ بیگانہ بخت قرصک ہاتھ سے قتل کر دینا اور اس طرح اس سے کہ یہودی یعنی انہیں

شکل

لہذا تہمت تہمتا کرتا ہے کہ یہودیوں نے یہودیوں کی مذمت اس وجہ سے کی کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کی مذمت اس وجہ سے کی کہ ان کو جبریل ان سے بعض نفاک جو جبریل انکو جبری معلوم ہوتے تھیں جبریل ان میں اس میں تفصیلاً فرما جا رہی کہ جیسے کہ انکا بیان علیہ السلام کہ بیگانہ بخت قرصک ہاتھ سے قتل کر دینا اور اس طرح اس سے کہ یہودی یعنی انہیں

Handwritten notes at the top of the page, including the page number ۲۲ in a circle.

البقرة

۲۲

كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا مَا نَسُوا الشَّيْطَانُ عَلَى

گویا وہ اسکو جانتے ہی تھے اور اسکی پیروی کرنے لگے جو کچھ شیاطین عند سلطنت شیطان

مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ

میں پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان کی طرف سے کفر کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ شیاطین نے

كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اسکی تعلیم کیا کرتے تھے جو اہل میں

الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمُنِ

دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا حالانکہ یہ دونوں فرشتے

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حُنُّ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ ۗ

کسی شخص کو کوئی بات نہ بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ادیکھا ہم آزمائش میں اور تو کفر نہ کر

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

اپر بھی لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھ لیتے تھے جن سے شوہر اور زوجہ میں جُدائی ڈال دین

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

حالانکہ بغیر حکم خدا وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا

اور سیکھتے بھی تھے تو وہ جو انکو نقصان پہنچائے اور فتنہ کچھ نہ کرے حالانکہ خوب جانتے تھے کہ

لَنْ يَشْتَرَهُ مَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّ

جو ان چیزوں کا خریدار ہوگا آخرت میں اسکا کوئی حصہ نہیں اور بہت ہی بُرا

مَاشَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ

اسکا معاوضہ ہر جنہوں نے اپنی جانیں ان باتوں کے عوض میں بیچ دین کاش اسے وہ جانتے ہوتے اور اگر وہ لوگ

أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَثُمَّ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا لَوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کی طرف سے جو ثواب انکو ملتا بہتر ہوتا کاش وہ اسے

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

Extensive vertical handwritten notes on the right margin, providing detailed commentary and explanations for the verses.

يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

جاننے ہوتے اسے ایمان لائیوالو (رسول سے) راعنا نہ کہو اور

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۝ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اُنظُرنا کہو اور (توجہ) سنو اور انکار کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا الْمَشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں اُنکو اور شرک کو کو یہ پسند نہیں ہے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر (برکت) نازل کیجائے حالانکہ اللہ جسکو چاہتا ہے

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَّا نَسِيْنَا

اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے ہم کسی آیت کو

مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيْنَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۝ أَلَمْ تَعْلَمَ

منسوخ نہیں کرتے نہ بھلا تے ہیں جبکہ کہ اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل نہ کر دین کیا تم لوگ نہیں

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ

کہ خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں کا اور

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

زمین کا اختیار صرف خدا ہی کو ہے اور سوائے خدا کے نہ تمہارا کوئی

وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ

یار ہے اور نہ مددگار آیا تمہارا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے رسول سے تو یہی ال

كَمَا سَأَلْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۝ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ

جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے تھے اور جو شخص ایمان سے کفر کو

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ

بدل لے گا وہ بلا شک گمراہ و بدراہ ہو جائیگا اہل کتاب میں سے

بہت سی تفسیریں اور حواشی اس آیت پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ "راعنا" کا مطلب ہے "ہماری طرف سے تمہاری دعا مانگنا" اور "انظرننا" کا مطلب ہے "ہمیں دیکھنا"۔ یہ آیت کفار کو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نیا نیا حکم نہیں آئے گا۔ یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔

بہت سی تفسیریں اور حواشی اس آیت پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ "راعنا" کا مطلب ہے "ہماری طرف سے تمہاری دعا مانگنا" اور "انظرننا" کا مطلب ہے "ہمیں دیکھنا"۔ یہ آیت کفار کو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نیا نیا حکم نہیں آئے گا۔ یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔

یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ "راعنا" کا مطلب ہے "ہماری طرف سے تمہاری دعا مانگنا" اور "انظرننا" کا مطلب ہے "ہمیں دیکھنا"۔ یہ آیت کفار کو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نیا نیا حکم نہیں آئے گا۔ یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔

یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ "راعنا" کا مطلب ہے "ہماری طرف سے تمہاری دعا مانگنا" اور "انظرننا" کا مطلب ہے "ہمیں دیکھنا"۔ یہ آیت کفار کو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نیا نیا حکم نہیں آئے گا۔ یہ آیت قرآن میں لفظ آیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے الفاظ آتے ہیں۔

کے سبب خدا کی نافرمانی کرنے والے قرار پائے ہوا اور اس کے خلاف کے سختی ہو گی اور اس کے خلاف کے سختی ہو گی اور اس کے خلاف کے سختی ہو گی

بے شمار تفسیریں اور حواشی لکھی گئی ہیں جو اس آیت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے کئی نے اس آیت کی تعلیمی اور اخلاقی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

البقرة ۲۶

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كِفَارًا

تو بہت سون کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد مرتد بنا کر کافر کر لیں

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

(مرتد) حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس بات کہ حق انہیں کھل چکا ہے

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

پس تم صاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو خود ظاہر کر دے بیشک اللہ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذُرُّوا

ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور چھو

تَقِلُّمُوا لَا تَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحَدَّوْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بیکلی تم اپنی ذات کے لئے پہلے سے بھیجے گا اسے اپنے خدا کے پاس پاؤ گے بیشک خدا

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن

تمہارے کل اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سوائے اُس کے جو یہودی ہو یا

كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا يَتْلُوا مَائِمَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

نفرانی ہرگز کوئی داخل جنت نہوگا یہ اُسکی آرزو میں ہیں تم (یہ کہو کہ) اگر تم سچے ہو

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

تو اپنی دلیل پیش کرو ہاں جو شخص خدا کے لئے اپنی ذات کو آمادہ اطاعت

فَحَسْبُ فَلَآ أَجْرَ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

کر لے اور وہ نیکو کار (بھی) ہو اسکا اجر خدا کے ذمہ ہی اور (جو ایسے ہیں) اُن کو نہ (آئندہ کا خوف ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَةُ

اور نہ وہ (گزشتہ کا) فتح کر سکیے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نصاریٰ کے (دین کی) کسی بات

عَلَىٰ شَيْءٍ ۝ وَقَالَتِ النَّصْرَةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ

پر نہیں اور نصاریٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہودی (دین کی) کسی بات پر نہیں

ثلاثة اربع

۱۳

بے شمار تفسیریں اور حواشی لکھی گئی ہیں جو اس آیت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے کئی نے اس آیت کی تعلیمی اور اخلاقی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ آیت جو کہ کفر اور کفر کی نفی کرتی ہے اور ایمان کی تائید کرتی ہے اور ایمان کی تائید کرتی ہے اور ایمان کی تائید کرتی ہے

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

حالانکہ وہ (دورن) کتاب پڑھتے ہیں انہی کی باتیں ان لوگوں نے بھی بنائی تھیں جو

مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَكْفُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

(حق کو) کچھ نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ اخلاف کر رہے

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ

ہیں ان (سب) کا فیصلہ کر دے گا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا اللہ کی

مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

مسجدوں میں اُنکے نام کے ذکر کو روک دے اور اُنکی بربادی میں کوشش کرے

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۝

یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے مناسب نہیں ہے کہ مسجدوں میں آئیں مگر ڈرتے ڈرتے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

دنیا میں اُنکے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں اُنکے واسطے بڑا عذاب

عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فِئْتَمَّ

ہے اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں پھر تم جہتوں میں سے کون سے کو لے کر ہیں خدا کا

وَجْهٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

رُحْمًا أَوْ حَرَمًا يَبُورُ كَمَا يَبُورُ الْبَيْتُ الَّذِي كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ لَمَّا خَلَّصْنَا

وَلَدًا اسْمٰئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَنِي إِسْرٰءِيلَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

قَالَتُونَ ۝ يَدْعُرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَذَاتَهُنَّ آمُرًا

اسی کا ہے (اور) سب سے بڑا فرمانبردار ہیں۔ (وہ) آسمانوں کا اور زمین کا سب سے بڑا فرمانبردار اور جب کسی امر کو

فَأَيُّمَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَأْمُرُ بِهِ فَلْيَفْعَلْ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

مگر کہتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے اور (وہ) ہوجاتا ہے اور جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' at the top and various explanatory text along the left and bottom margins.

يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کا بدلہ کسی طرح نہ کرے نفس جان سے دیکھا اور نہ اس کا فیہ قبول

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

کیا جائیگا اور نہ کوئی سفارش اسکو نفع پہنچائے گی اور نہ آگے (کسی اور طرح سے) مدد کی جائے گی

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي

اور اسوقت کہ یاد کرو جبکہ ابراہیمؑ کا آٹھ کلمے کی امتحان لیا اور ابراہیمؑ نے انکو پورا کر دیا (خدا نے)

جَاءَكَ لِلنَّاسِ مِمَّا مَاءٌ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ

فرمایا کہ میں تمکو کل آدمیوں کا امام مقرر کروں لا اھلن (ابراہیمؑ سے عرض کی اور میری اولاد میں سے ہے) خدا نے فرمایا

لَا يَنْبَغُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ

جو مقام ہے (دعوت پر مہتمم) فائدہ نہ آٹھائیں گے اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ ہم نے اس کو مکہ کو مکہ قرار دیا

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

ثواب کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا اور (یہ حکم دیکھا) مقام ابراہیمؑ کو یعنی

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَمِعَ أَن يَنْهَىٰ ابْنَتِي

قرار دو اور ابراہیمؑ اور اسبیل کو یعنی یہ عہد دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ

لوگوں کو تیروں دن اور آٹھ گنوں اور رکوع دو رکوع والوں کے لئے ہاگ صاف رکھو اور (اسوقت کو یاد کرو)

إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْتَقِ أَهْلَهُ مِنَ

جبکہ ابراہیمؑ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اسکو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے

الشَّرِّ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ

افسوس اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں بچوں سے رزق پہنچا (خدا نے) فرمایا اور جو ان میں سے

كَفَرُوا مَتَّعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَسْ

کافر ہو گیا میں اسکو تھوڑے عرصہ کیلئے معہ پہنچاؤں گا پھر اسکو عذاب جہنم کے لئے مضطر کروں گا اور وہ بری

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire right margin of the page.

مُسْلِمُونَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ خَضَعَ يَعْقُوبُ لِمُوسٰٓ

فرمانبردار ہو آہا تم اسوقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی

اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِي قَالُوۡا نَعْبُدُ

کہ اسوقت انہوں نے اپنے بیٹوں دریافت کیا تھا کہ تم میرے بعد کسکی عبادت کرو گے انہوں نے عرض کیا کہ

اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا

ہم آپکے سوا اور آپکے دادا چچا باپ ابراہیم و اسمعیل واسحق کے سوا خداے واحد کی عبادت

وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

کیا کریں گے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تَسْئَلُونَ عَمَّا

انکا کیا انکے لئے رہا اور تمہارا کیا تمہارے لئے اور جو کیا کرتے تھے اسکی بات نہ

كٰنُوۡا يَعْمَلُوۡنَ ۝ وَقَالُوۡا كٰنُوۡا هٰٓؤُلَآءِ اَوْ نَصْرٰی

سوال نہ کیا جائے گا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت

كٰنُوۡا ۚ وَاَقْلَبْ بَلۡ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیۡفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ

یاد گئے (اے رسول) تم یہ کہہ دو کہ خالص دل سے ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور وہ مشرکین میں سے

اَلْمَشْرِکِیۡنَ ۝ قَوْلُوۡا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنۡزِلَ اِلَیۡنَا وَمَا

نہ تھے تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر اور جو کچھ

اُنۡزِلَ اِلَیۡ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَاِسْحٰقَ وَاِسْحٰقَ

ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب

وَالۡاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوۡتِیۡ مُوسٰٓی وَعِیۡسٰی مَاۤ اُوۡتِیۡ النَّبِیُّوۡنَ

اور اسباط پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے اس پر اور جو انہیں کو انکے رب کی طرف

مِنۢ رَبِّہُمۡ ۗ لَا نَفَرِقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ ۗ وَنَحْنُ لَہٗ

ملا ہے اس پر اور ہم (خلق ہونے کے) ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the Basmala and other introductory text.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) on the left and 'سورة' (Surah) on the right.

مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا

مسلم ہیں اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو جیسا کہ تم نے ہدایت پائی

وَأَنْ تُولُوا آفَاتِنَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

اور اگر وہ گردان ہو گئے تو وہی نافرمانی میں ہیں پس اللہ تم کو آگے شرسے بچائے گا

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

اور وہ سنے والا اور جاننے والا ہے یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے جو کما رنگ

اللَّهُ صِبْغَةً زَوْجِنَ لَهُ عِبْدُونَ ۚ قُلْ أَمْحَا جُنُودَنَا فِي

جو کما رنگ؟ حالانکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں (اسے رسول) کہہ دو کہ کیا اللہ کے بارے میں

اللَّهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلِنَا أَعْمَالُكُمْ ۚ

اللہ ہے جو تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے

وَسَخِّنَ لَهُ الْخَالِصُونَ ۚ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

اور ہم اس سے خلوص رکھنے والے ہیں یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا أَهْلًا أَقْ

اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط یہودی

نَصْرَى بِقُلُوبٍ ۚ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرًا اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ

نصرانی تھے (اسے رسول) کہہ دو کہ تم زیادہ واقفکار ہو یا اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا

مَنْ كَثُرَتْ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

جو اللہ کی شہادت کو جو آگے پاس ہے چھپائے اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو

عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا

جو تم نہیں ہے وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے تمہارا کیا ان کے لئے

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

اور تمہارا کیا تمہارے لئے اور تم سے اس کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے سوال میں کیا ہیں

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom left of the page.